

رہبر معظم سے عدلیہ کے سربراہ اور عدلیہ سے وابستہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی ملاقات - 28 / Jun / 2007

رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے آج عدلیہ کے سربراہ اور عدلیہ سے وابستہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں ، بعض ججوں اور عدلیہ کے کارکنوں سے ملاقات میں اسلامی نظام حکومت کے کارآمد ہونے پر عدلیہ کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا: اسلامی نظام کے اہداف و مقاصد کے حصول میں عدلیہ کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے اور سماجی، ثقافتی ، اخلاقی اور دیگر شعبوں میں امن و سکون کا قیام، قانون شکن افراد کے ساتھ بلاکسی امتیاز کے پیش آنا، عدلیہ کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔

اس ملاقات میں جو کہ آیت اللہ شہید بیہشتی اور انقلاب کے بہتر سچے اور وفادار شہداء کی برسی کے موقع پر انجام پائی، سات تیر (28 جون) کے شہداء کے اہل خانہ بھی موجود تھے ، اس موقع پر رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران نے عدلیہ کے فرائض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ، سماج میں عدالت کے اجراء ، احقاق حق، قانون کی بالا دستی ، فرصت طلب اور ستم پیشہ عناصر سے پیکار معاشرے میں امن و سکون کی فضا کے قیام کو عدلیہ کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا: اقتصادی سلامتی کا لازمہ یہ ہے کہ بد عنوان عناصر کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور یہ تصور بالکل غلط ہے کہ بد عنوان اقتصادی عناصر پر شکنجہ کسے سے اقتصادی ناامنی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا ۔

رہبر معظم نے اس سلسلہ میں فرمایا: اگر کچھ گنے چنے بد عنوان اقتصادی عناصر کا دائرہ حیات تنگ کر دیا جائے تو صحیح اقتصادی سرگرمیوں کی راہ ہموار ہو جائے گی ۔

حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے اخلاقی و ثقافتی سلامتی کے ساتھ عزت و آبرو کی حفاظت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا: کسی ٹھوس اور معقول دلیل کے بغیر کسی بھی فرد سے مؤاخذہ کی ہرگز اجازت نہیں ہونا چاہئے اور سماج میں کسی کو دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دینا چاہئے ۔ افواہوں اور تہمتوں کا بازار گرم نہ کیا جائے چونکہ ایسا کرنا احکام اسلامی اور شرع کی خلاف ورزی ہے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے عدلیہ کے سربراہ ، اور دیگر عہدیداروں اور کارکنوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے فرمایا: اگر عام لوگ عدلیہ پر اپنا اعتماد ظاہر کریں اور اسے اپنی پناہ گاہ تصور کریں تو ایسی صورت میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ عدلیہ اپنے مقاصد و اہداف کے حصول میں کامیاب ہے لیکن اگر لوگ عدلیہ کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں تو ملک کے عدالتی نظام کو ان اہداف کے حصول کے لئے سخت محنت و لگن کی ضرورت ہے۔

رہبر معظم نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا: ہمیشہ امور کے سرانجام و نتائج پر نظر ہونا چاہئے ، ممکن ہے کمیت و کیفیت کے اعتبار سے بہت سے کام انجام پائیں لیکن عوام کی رضایت و خشنودی اصلی معیار و ملاک ہے اور یہی امر کامیابی و ناکامی کی دلیل ہے ۔

حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے مجرموں اور قانون شکنوں سے سخت برتاؤ ، بالخصوص عدلیہ کو ایسے عناصر سے پاک کرنے کو عوام کے عدلیہ پر اعتماد و بھروسہ کا باعث بتاتے ہوئے فرمایا : عدلیہ کی کارکردگی پر نظارت رکھنا ، نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا، اہداف کے حصول کے لئے نظام الاوقات وضع کرنا، ایسے امور ہیں جو عوام میں عدلیہ پر اعتماد سازی میں مدد و معاون ثابت ہوسکتے ہیں ۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیا: عدلیہ کے عہدیداروں میں باقی ماندہ مدت میں فعالیت و سرگرمی کا وہی جوش و جذبہ کار فرما ہونا چاہئے جو اس سے پہلے تھا۔

رہبر معظم نے پارلیمنٹ ، عدلیہ اور حکومت پر حکمفرما موجودہ وقت کو نہایت غنیمت موقع سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا : ان تینوں قوا کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہئے اور آپسی تعاون کو فروغ دینا چاہئے تا کہ بہتر طویقے سے اپنے فرائض کو انجام دے سکیں۔

رہبر معظم نے عدلیہ کے عہدیداروں کو ایک مکمل و جامع اسلامی عدالتی نظام متعارف کروانے کیلئے موجودہ شرائط سے بہترین استفادہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔

حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے اپنے خطاب کے ایک دوسرے حصہ میں سات تیر (28 جون) کے شہداء بالخصوص آیت اللہ شہید بہشتی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، ان شہداء کا جرم یہ تھا یہ لوگ مرد عمل و ممتاز شخصیات تھیں، آپ نے مزید فرمایا سات تیر (28 جون) کا حادثہ ایک تاریخ ساز حادثہ ہے چونکہ اس واقعہ نے جہاں ایک طرف انقلاب اسلامی کے دشمنوں کے پلید و ستم پیشہ چہرہ سے نقاب ہٹائی وہیں دوسری طرف اسلامی نظام کے استحکام و پائنداری کی علامت بن گیا۔

اس ملاقات میں عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ ہاشمی شاہرودی نے سات تیر (28 جون) کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہید آیت اللہ بہشتی کو موجود اسلامی عدالتی نظام کا معمار و بانی بتایا، آیت اللہ شاہرودی نے

عدليه كى كاركردگى كى رپورٹ پيش كرتے ہوئے مندرج ذيل امور كى طرف اشارہ كيا:

- شبہ عدالتى نظام كا قيام

- عوامى عدالتوں كا احياء

- تعاون و مشاورت كميٹیوں ميں توسيع

- قيد و بند كى سياست پر تجديد نظر

- سستا اور جلدى انصاف فراہم كرنا (مقدمات كى مدت ميں كمى)

- انصاف كے عمل كو شفاف اور صاف ستھرا بنانا

- عدالتوں كو جديد سہوليات مہيا كرانا

- عدالتى بعض قوانين ميں اصلاح

- انتظاميہ ميں علمى ثقافت كو زندہ كرنا

عدليه كے سربراہ نے عدليه اور حكومت كے درميان مشتركہ كميٲي كى تشكيل كى طرف اشارہ كيا اور اس كى مندرجہ ذيل ذيلي كميٲيوں كے فرائض و ذمہ داريوں كى طرف توجہ دلائي

بيت المال (عمومي ثروت) كے حقوق كى حفاظت كے لئے كميٲي كا قيام -

- زمين پر جبري اور غاصبانہ قبضہ كے خلاف كميٲي كا قيام

- اخلاقي و معاشرتي جرائم سے پيكار كے لئے سينٲر كا قيام

- اقتصادي بد عنوانيوں كا قلع و قمع كرنے كے لئے كميٲي كا قيام

- بچوں اور عورتوں كے حقوق كى حمايت كے لئے مختلف دفاتر كا قيام

- شہريوں كے حقوق كے دفاع كے لئے مختلف مراکز كا قيام

- اسلامي حقوق بشر كے لئے مختلف سينٲروں كا قيام

- بنيادي آئين كى دفعہ 44 كے نفاذ كے لئے كميٲي كا قيام